

یہ فقرات آپ غلط یوز کرتے ہیں

1. I can't help talking.	میں بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔
	کوئی ایسا کام جو آپ کیے بغیر نہ رہ سکیں تب یہ جملہ یوز کریں۔
2. I really appreciate it...	میں واقعی تعریف کرتا ہوں۔
	کسی کا شکر یہ ادا کرنے کے لیے آپ یہ فقرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
3. Excuse me.	معاف کیجئے۔
	کسی سے راستہ مانگنے کے لیے یا اچھے انداز سے کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔
4. I'm Sorry. (Really)	میں معافی چاہتا ہوں۔
	اگر آپ سے کوئی کام غلط ہو جائے اور آگے والے کو برا لگے تو یہ فقرہ استعمال کریں۔
5. What do you think?	کیا کہتے ہو؟
	جب آپ کسی بات پر آگے والے سے اُسکی رائے مانگنا چاہتے ہیں۔
6. How does that sound?	یہ کیسا لگتا ہے؟
	کسی کو اپنی ذاتی رائے یا تجویز دینے کے بعد آگے والے سے پوچھیں کی رائے کیسی لگی۔
7. (Oh) never mind.	اوہ! کوئی بات نہیں۔
	اگر آپ ایک بات کو بار بار بتا رہے ہیں لیکن آگے والا سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مزید وہ بات نہیں کہنا چاہتے۔
8. My mistake.	میری غلطی۔
	جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ یہ فقرہ یوز کر سکتے ہیں۔
9. I don't understand.	مجھے سمجھ نہیں آتا۔
	جب آپ کو کوئی بات بتادے لیکن آپ کو سمجھ نہ آئے تب یہ فقرہ استعمال کریں۔
10. Could you repeat that please?	کیا آپ مہربانی سے دُہرا سکتے ہیں؟
	جب کوئی بات بتائے تو آپ کو سمجھ نہ آئے آپ آگے والے درخواست کرتے ہیں کہ اس بات کو دُہرایا جائے۔
11. Let you talk to me.	تم مجھ سے بات کرو۔
	جب آپ آگے والے کو کسی بھی کام کرنے کی اجازت دیں۔ تب یوز کریں۔
12. Thank you. That helps a lot.	شکریہ، اس سے کافی مدد ملتی ہے۔
	جب آگے والا آپکی درخواست سن کر آہستہ بات کرنا شروع کر دے تب یہ جملہ استعمال کریں
13. What does _____ mean?	اس کا کیا مطلب ہے؟
	جب آپ کوئی نیا لفظ یا فقرہ تو سنیں تو اس وقت یہ جملہ استعمال کریں
14. What's the big deal?	مسئلہ کیا ہے؟
	جب آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ کوئی چیز اتنی اہم کیوں ہے۔ تب یوز کریں۔

یہ فقرات آپ غلط یوز کرتے ہیں

18. Nice to meet you.	آپ سے مل کر اچھا لگا۔
	ایک دوسرے کا نام جاننے کے بعد یہ عمدہ جملہ یوز کریں کہ آپکو اچھا لگا ملاقات کر کے۔
19. I'm having this car?	میرے پاس یہ کار ہے۔
	یہ اس وقت استعمال کریں جب یہ بتانا ہو کہ آپکو کوئی چیز آپکی ملکیت میں ہے۔
20. What do you do?	تم کیا کرتے ہو؟
	ملاقات کرنے بعد آگے والے سے یہ پوچھنا ہو کہ وہ کونسا کام کرتا ہے تب یہ جملہ یوز کریں۔
21. Are you kidding?	مذاق کر رہے ہو آپ؟
	آپ سے جب کوئی حیرت کی بات کرے تو آپکو یہ لگے کہ وہ سنجیدہ اور سچی بات نہیں۔
22. Pardon!	معاف کیجئے۔
	کسی سے بڑے ہی اچھے انداز میں اپنی غلطی کی معافی مانگنا۔
23. How do you do?	آپ کیسے ہیں؟
	جب کسی سے کچھ عرصہ بعد ملاقات کریں تو حال چال پوچھنے کے لیے یہ فقرہ یوز کریں۔
24. What to talk of?	اسکی کیا بات کرنی۔۔
	یہ جملہ تب یوز کریں جب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کسی ایک چیز کو بات دور وہ دوسرا کام بھی نہیں کرتا۔
25. I'll be with you in a moment.	میں اگلے لمحے آپکے ساتھ ہوں گا۔
	جب آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے لیکن آپ تھوڑا سا وقت لیکر کام مکمل کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کی اگلی باری انکی ہے۔
26. How come!	کس طرح آیا!
	کسی سے یہ پوچھنے کے لیے کہ کوئی چیز کیوں ہوئی یا وہ سچ ہے۔
27. How dare you!	تمہاری اتنی ہمت!
	جب آپ کسی چیز یا شخص پر غصہ ہوں تب یہ جملہ یوز کریں۔
28. (Oh really?) Actually, I thought...	اوہ! واقعی؟ دراصل، میں نے سوچا تھا۔
	یہ جملہ تب یوز کریں جب آپ اچھے طریقے سے کسی کی بات کیساتھ اتفاق نہیں کرنا چاہتے
29. Actually, I [verb]...	دراصل، میں۔۔۔
	یہ جملہ بھی تب یوز کریں جب آپ اچھے طریقے سے کسی کی بات کیساتھ اتفاق نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپکا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔
30. I'm (just) about to [verb]...	میں بس ابھی۔۔۔
	یہ جملہ تب یوز کریں جب آپ کوئی کام بہت جلدی شروع کرنے جا رہے ہیں یا کرنے لگے ہیں۔
31. It Doesn't matter!	کوئی بات نہیں۔
	جب یہ بتانا ہو کہ کوئی چیز اہم نہیں ہے، لہذا پریشان مت ہوں۔